

| PARA 8-2ND HALF AL ARA'AF 1-87 |                 |          |  |
|--------------------------------|-----------------|----------|--|
| Ayah #                         | Word            | Rootword | Meaning  |
| AYAT 2                         | صَدْرَكَ        | ص در     | DIL TUMHAAREE                                      |
|                                | حَرَجٌ          | ح رج     | TANGEE   |
|                                | لَتَذَرَ        | ن ذر     | TAKEY TUM DURAO                                    |
|                                | ذِكْرًا         | ذ ك ر    | NASEEHAT   |
| AYAT 3                         | اتَّبَعُوا      | ت ب ع    | PPAIRWEE KERO                                      |
|                                | أُولَيَاءَ      | ول ي     | DOSTOON KEE  |
|                                | قَبِيلَاً       | ق ل ل    | BOHAT KUM  |
|                                | تَذَكَّرُونَ    | ذ ك ر    | TUM SABAQ SEEKHTEY HO                              |
| AYAT 4                         | قَرِيَّةٍ       | ق ر ي    | BASTIYAAN  |
|                                | أَهْلَكَنَا هَا | ه ل ك    | HALAAK KER DIYA HUM NEIN UN KO                     |
|                                | بَأْسَنَا       | ب أ س    | AZA'AB HAMARA                                      |
|                                | بَيَّنَا        | ب ي ت    | RAAT KO SOTEY MEIN                                 |
|                                | قَائِلُونَ      | ق ي ل    | DOPEHER KO QELOOLA KERTEY<br>THEY/TWICE IN QURA'AN |
| AYAT 5                         | دَعْوَاهُمْ     | دع و     | PUKAAR UN KEE                                      |
| AYAT 6                         | فَلَسْلَانَ     | س أ ل    | PUS HUM ZAROOR POOCHEIN GEY                        |
| AYAT 7                         | فَلَنْقَصَنَ    | ق ص ص    | PHIR BAYAAN KEREIN GEY HUM                         |
|                                | بِعْلَمْ        | ع ل م    | ILM KEY SATH                                       |
|                                | غَابِيَنَ       | غ ي ب    | GHAAIB   |
| AYAT 8                         | وَالْوَزْنُ     | وز ن     | TOLNA  |
|                                | ثَقْلُ          | ث ق ل    | BHAARI HUEY  |
|                                | مَوَازِينَهُ    | وز ن     | WAZAN KIYE HUEY                                    |
|                                | الْمُفْلِحُونَ  | ف ل ح    | FALAAH PAANEY WAALEY                               |
| AYAT 9                         | خَفْتُ          | خ ف ف    | HALKEY HUEY  |
|                                | خَسِرُوا        | خ س ر    | KHASAAREY MEIN DALA                                |
|                                | أَنْفَسَهُمْ    | ن ف س    | APNEE JAANOON KO                                   |
|                                | بِأَيَّاتِنَا   | أ ي ي    | HAMAREE AYATOON SEY                                |
| AYAT 10                        | مَكَانَكُمْ     | م ك ن    | HUM NEIN JAGAH DEE TUMHEIN                         |
|                                | جَعَلْنَا       | ج ع ل    | PAIDA KIYE HUM NEIN                                |
|                                | مَعَايِشَ       | ع ي ش    | SAMAANEY MAEESHAT                                  |
|                                | قَبِيلَاً       | ق ل ل    | BOHAT KUM HEY                                      |
|                                | تَشْكُرُونَ     | ش ك ر    | TUM SHUKER KERTEY HO                               |
| AYAT 11                        | خَلْقَاتِكُمْ   | خ ل ق    | PAIDA KIYA HUM NEIN TUMHEIN                        |
|                                | صَوْرَاتِكُمْ   | ص و ر    | SOORTEIN BANNEIN TUMHAAREE                         |

|         |                       |       |   |
|---------|-----------------------|-------|---|
|         | <b>اسْجَدُوا</b>      | س ج د | <b>SAJDA KERO</b>                                 |
|         | <b>السَّاجِدِينَ</b>  | س ج د | <b>SAJDA KERNEY WAALOON MEIN</b>                  |
| AYAT 12 | <b>مَنْعَكَ</b>       | م ن ع | <b>BAAZ REKHA TUMHEIN</b>                         |
|         | <b>أَمْرَتْكَ</b>     | أ م ر | <b>MEIN NEIN HUKUM DIYA TUMHEIN</b>               |
|         | <b>خَلَقْتَنِي</b>    | خ ل ق | <b>BANAYA TOON NEIN MUJHEY</b>                    |
|         | <b>طَيْنِ</b>         | ط ي ن | <b>MATTI</b>                                      |
| AYAT 13 | <b>فَاهْبِطْ</b>      | ه ب ط | <b>PUS UTAR TOON</b>                              |
|         | <b>تَكَبَّرَ</b>      | ك ب ر | <b>TOON TAKABBUR KAREY</b>                        |
|         | <b>فَاخْرُجْ</b>      | خ ر ج | <b>PUS NIKAL JA</b>                               |
|         | <b>الصَّاغِرِينَ</b>  | ص غ ر | <b>ZALEELOON MEIN</b>                             |
| AYAT 14 | <b>أَنْظَرْنِي</b>    | ن ظ ر | <b>MOHLUT DEY MUJHEY</b>                          |
|         | <b>يُبَعِّثُونَ</b>   | ب ع ث | <b>KEH UTHAAEY JAAEIN GEY</b>                     |
| AYAT 15 | <b>الْمُنْتَرِينَ</b> | ن ظ ر | <b>MUHLAT DIYE JAANEY WAALOON MEIN</b>            |
| AYAT 16 | <b>أَغْوَيْتَنِي</b>  | غ و ي | <b>GUMRAAH KIYA TOON NEIN MUJHEY</b>              |
|         | <b>لَا قَعْدَنَ</b>   | ق ع د | <b>ZAROOR BETHOON GAA MEIN</b>                    |
|         | <b>صِرَاطَكَ</b>      | ص ر ط | <b>RAASTEY TEREY</b>                              |
|         | <b>الْمُسْتَقِيمَ</b> | ق و م | <b>SEEDHEY PER</b>                                |
| AYAT 17 | <b>أَيْدِيهِمْ</b>    | ي د ي | <b>INKEY AAGEY</b>                                |
|         | <b>خَلْفِهِمْ</b>     | خ ل ف | <b>IN KEY PEECHEY</b>                             |
|         | <b>أَيْمَانِهِمْ</b>  | ي م ن | <b>DAAEIN IN KEY</b>                              |
|         | <b>شَمَائِيلِهِمْ</b> | ش م ل | <b>BAAEIN IN KEY</b>                              |
|         | <b>تَجْدُ</b>         | و ج د | <b>PAAEY GAA TOON</b>                             |
|         | <b>أَكْثَرَهُمْ</b>   | ك ث ر | <b>AKSER INKEY KO</b>                             |
|         | <b>شَاكِرِينَ</b>     | ش ك ر | <b>SHUKAR GUZAAR</b>                              |
| AYAT 18 | <b>اَخْرُجْ</b>       | خ ر ج | <b>NIKAL JA</b>                                   |
|         | <b>مَذْعُومًا</b>     | ذ أ م | <b>ZALEEL/BUREY HAAL SEY/ONLY ONCE IN QURA'AN</b> |
|         | <b>مَذْحُورًا</b>     | د ح ر | <b>MURDOOD</b>                                    |
|         | <b>تَبَعَكَ</b>       | ت ب ع | <b>PAIRWEE KAREY GA TEREE</b>                     |
|         | <b>لَامْلَآنَ</b>     | م ل أ | <b>ZAROOR BHUR DOON GA</b>                        |
|         | <b>أَجْمَعِينَ</b>    | ج م ع | <b>SUB SEY</b>                                    |
| AYAT 19 | <b>اسْكُنْ</b>        | س ك ن | <b>RAHO</b>                                       |
|         | <b>زَوْجَكَ</b>       | ز و ج | <b>BEEWEE TUMHAAREE</b>                           |
|         | <b>حَيْثَ</b>         | ح ي ث | <b>JAHAN</b>                                      |
|         | <b>شِئْتَمَا</b>      | ش ي أ | <b>CHAAHO TUM</b>                                 |
|         | <b>تَقْرَبَا</b>      | ق ر ب | <b>QAREEB JANA</b>                                |
|         | <b>الشَّجَرَةَ</b>    | ش ج ر | <b>DARAKHT KEY</b>                                |

| AYAT 20 | فَوْسُوسَ      | و س و س | PUS WASWASA DALA/RUBBAI             |
|---------|----------------|---------|-------------------------------------|
|         | لَبِيْدَىٰ     | ب د و   | TAAKEY ZAAHIR KER DEY               |
|         | وَرِيَ         | ور ي    | POSHEEDA THEIN                      |
|         | سَوْأَتِهِمَا  | س و أ   | IN KEE SHARAM GAHEIN                |
|         | نَهَاكَمَا     | ن ه ي   | MANA KIYA THA TUM DONOON KO         |
|         | مَلَكَيْنِ     | م ل ك   | FARISHTEY                           |
| AYAT 21 | قَاسَمَهُمَا   | ق س م   | QASAM KHAAEE IN KEY AAGEY           |
|         | الْتَّاصِحِينَ | ن ص ح   | KHAIR KHUWAAH HOON                  |
| AYAT 22 | فَلَلَاهُمَا   | دل ل    | PUS MAAIL KER DIYA UN DONOON KO     |
|         | بِغَرْرُورِ    | غ ر ر   | DHOKEY KEY SATH                     |
|         | بَدْثُ         | ب د و   | KHUL GAEEN                          |
|         | طِفَقاً        | طف ق    | WO DONOON LAGEY                     |
|         | يَخْصِفَانِ    | خ ص ف   | JOURNEY/CHIPKAANEY/TWICE IN QURA'AN |
|         | وَرَقِ         | ورق     | PATTEY                              |
|         | نَادَاهُمَا    | ن د و   | PUKAARAA DONOON NEIN                |
| AYAT 23 | ظَلَمْنَا      | ظل م    | ZULM KIYA HUM NEIN                  |
|         | تَغْفِرِ       | غ ف ر   | TOON BAKHSHEY GA                    |
|         | تَرْحَمْنَا    | رح م    | REHAM KAREY GA HUM PER              |
| AYA 24  | مُسْتَقَرٌ     | ق ر ر   | THIKAANAA                           |
|         | مَتَاعٌ        | م ت ع   | NAFA UTHANA                         |
|         | حِينِ          | ح ي ن   | AIK MUDDAT                          |
| AYAT 25 | تَحْيَونِ      | ح ي ي   | TUMHARA JEENA HO GA                 |
|         | تَمُوتُونَ     | م و ت   | MURNA HOGA TUMHEIN                  |
| AYA 26  | يُوَارِي       | ور ي    | KEH DHAANKEY                        |
|         | سَوْأَتِكُمْ   | س و أ   | SATAR TUMHAAREY                     |
|         | رِيشَا         | ري ش    | ZEENAT KEY LIYE/ONCE IN QURA'AN     |
|         | لِبَاسُ        | ل ب س   | LIBAAS                              |
|         | يَذَكَرُونَ    | ذ ك ر   | NASEEHAT PAKREIN                    |
| AYAT 27 | يَفْتَتَنُكُمْ | ف ت ن   | BEHKAAEY TUMHEIN                    |
|         | أَبْوَيْكُمْ   | أ ب و   | TUMHAAREY MAAN BAAP KO              |
|         | يَنْزَعُ       | ن ز ع   | UTARWA DIYA                         |
|         | لَيْرِيهِمَا   | رأ ي    | TAAKEY DIKHLAAEY UN KO              |
|         | قَبِيلَةٍ      | ق ب ل   | QABEELA US KA                       |
|         | تَرَوَنَهُمْ   | رأ ي    | DEKH SAKTEY TUM UN KO               |
| AYAT 28 | فَاحْشَةٌ      | ف ح ش   | BEHAYAEE KA KAAM                    |
|         | وَجْنَانَا     | و ج د   | PAYA HUM NEIN                       |

|         |  |                |   |
|---------|--|----------------|---|
| AYAT 29 | <b>رَبِّيْ</b><br><b>بِالْقِسْطِ</b>       | ر ب ب<br>ق س ط | MEREY PARWARDIGAAR NEIN<br>INSAAF KERNEY KA                 |
|         | <b>أَقِيمُوا</b><br><b>وُجُوهُكُمْ</b>     | ق و م<br>و ج ه | SEEDHEY KARO<br>MOONH APNEY                                 |
|         | <b>وَادْعُوهُ</b><br><b>مُخْلِصِينَ</b>    | د ع و<br>خ ل ص | AUR PUKAARO USEE KO<br>KHAALIS KER KEY                      |
|         | <b>بَدَأْكُمْ</b><br><b>تَعُودُونَ</b>     | ب د أ<br>ع و د | IBDITAH MEIN PAIDA KIYA TUMHEIN<br>PHIR PAIDA KIYE JAAO GEY |
| AYAT 30 | <b>فَرِيقًا</b><br><b>الضَّلَالَةُ</b>     | ف ر ق<br>ض ل ل | AIK GIROH KO<br>GUMRAAHEE                                   |
|         | <b>اتَّخَذُوا</b><br><b>يَحْسِبُونَ</b>    | أ خ ذ<br>ح س ب | BANA LIYA<br>SAMJHTEY HEIN                                  |
|         | <b>مُهْنَدُونَ</b><br><b>زَيَّنَتُكُمْ</b> | ه د ي<br>ز ي ن | HIDAYA YAAFTA HEIN<br>ZEENAT APNEE/AARAASH APNEE            |
|         | <b>كُلُّوا</b><br><b>وَاشْرِبُوا</b>       | أ ك ل<br>ش ر ب | KHAAO<br>AUR PIYO   |
|         | <b>تَسْرِفُوا</b><br><b>يُحِبُّ</b>        | س ر ف<br>ح ب ب | ISRAAF KARO<br>DOST REKHTA                                  |
|         | <b>الْمُسْرِفِينَ</b>                      | س ر ف          | ISRAAF KERNEY WAALOON KO                                    |
| Aya 32  | <b>الْطَّيَّابَاتِ</b><br><b>خَالِصَةٌ</b> | ط ي ب<br>خ ل ص | paakeeza cheezein<br>KHAAS                                  |
|         | <b>الْقِيَامَةُ</b>                        | ق و م          | QAYAAMAT KEY  |
|         | <b>نُفَصِّلُ</b>                           | ف ص ل          | HUM KHOL KHOL KER BAYAAN KERTEY HEIN                        |
| AYA 33  | <b>الْفَوَاحِشَ</b><br><b>ظَهَرَ</b>       | ف ح ش<br>ظ ه ر | BEY HAYAYEE<br>JO ZAAHIR HOON                               |
|         | <b>بَطَنَ</b><br><b>الْإِثْمُ</b>          | ب ط ن<br>أ ث م | POSHEEDA HOON<br>GUNAAH                                     |
|         | <b>الْبَغْيَ</b><br><b>تُشْرِكُوا</b>      | ب غ ي<br>ش ر ك | ZIYAADTEE<br>TUM SHAREEK BANAAO                             |
| AYAT 34 | <b>أَمَّةٌ</b><br><b>أَجْلٌ</b>            | أ م م<br>أ ج ل | FIRQA<br>WAQT MUQARRAR                                      |
|         | <b>يَسْتَأْخِرُونَ</b>                     | أ خ ر          | DAIR KER SAKTEY HEIN  |
|         | <b>سَاعَةٌ</b>                             | س و ع          | AIK GHAREE  |
|         | <b>يَسْتَقْدِمُونَ</b>                     | ق د م          | AAGEY BARTH SAKTEY HEIN                                     |
| AYAT 35 | <b>يَقْصُّونَ</b><br><b>اتَّقُوا</b>       | ق ص ص<br>و ق ي | SUNAAYAA KAREIN<br>DARTAA RAHEY                             |

|         |                       |       |                                 |
|---------|-----------------------|-------|---------------------------------|
|         | <b>أَصْنَحَ</b>       | ص ل ح | ISLAAH KAREY                    |
|         | <b>يَخْرُّونَ</b>     | ح ز ن | GHAMGEEN HOON GEY               |
| AYA 36  | <b>إِسْتَكْبَرُوا</b> | ك ب ر | TAKKABUR KIYA                   |
|         | <b>أَصْحَابُ</b>      | ص ح ب | SAATHI HEIN                     |
|         | <b>النَّارُ</b>       | ن و ر | AAG KEY                         |
|         | <b>خَالِدُونَ</b>     | خ ل د | HAMESHA RAHEIN GEY              |
| AYAT 37 | <b>أَظْلَمُ</b>       | ظل م  | ZIYADA ZAALIM HEY               |
|         | <b>أَفْتَرَى</b>      | ف ر ي | BOHTAAN BAANDHEY                |
|         | <b>يَنَالُهُمْ</b>    | ن ي ل | MILEY GAA IN KO                 |
|         | <b>نَصِيبُهُمْ</b>    | ن ص ب | HISSA IN KA                     |
|         | <b>يَتَوَفَّهُنَّ</b> | و ف ي | JAAN NIKAALNEY IN KEE           |
|         | <b>تَذَعَّونَ</b>     | د ع و | PUKAARTEY                       |
|         | <b>ضَلَّوا</b>        | ض ل ل | GUM HO GAEY                     |
|         | <b>شَهِدوا</b>        | ش ه د | IQRAAR KAREIN GEY               |
| AYAT 38 | <b>اَذْخَلُوا</b>     | د خ ل | DAAKHIL HO JAAO                 |
|         | <b>خَلْتُ</b>         | خ ل و | GUZREE HEIN                     |
|         | <b>قَبَّكُمْ</b>      | ق ب ل | PEHLEY TUM SEY                  |
|         | <b>لَعْنَتُ</b>       | ل ع ن | LAANAT KAREY GEE                |
|         | <b>أَخْتَهَا</b>      | أ خ و | BEHAN APNEE PER                 |
|         | <b>اَذْأَرَكُوا</b>   | در ك  | MIL JAAEIN GEY                  |
|         | <b>اَخْرَاهُمْ</b>    | أ خ ر | BAAD WALI INKEE                 |
|         | <b>لَا وَلَّاهُمْ</b> | أ و ل | APNEE PEHLEE KEE NISBAT         |
|         | <b>أَضْلَلُوا</b>     | ض ل ل | JINHOON NEIN GUMRAA KIYA HAMEIN |
|         | <b>فَاتِّهِمْ</b>     | أ ت ي | PUS TOON DEY UNKO               |
|         | <b>ضَغْفَا</b>        | ض ع ف | DUGNAA                          |
| AYAT 39 | <b>فَضْلٌ</b>         | ف ض ل | FAZEELAT                        |
|         | <b>فَذُوقُوا</b>      | ذ و ق | PUS CHAKHO MAZA                 |
|         | <b>تَكْسِبُونَ</b>    | ك س ب | TUM KIYA KERTEY/TUM KAMAATEY    |
| AYAT 40 | <b>كَذَّبُوا</b>      | ك ذ ب | JHUTLAAYAA                      |
|         | <b>ثَسَّخَ</b>        | ف ت ح | KHOLEY JAAEIN GEY               |
|         | <b>أَبْوَابٍ</b>      | ب و ب | DARWAAZEH                       |
|         | <b>يَذْخُلُونَ</b>    | د خ ل | WOH DAAKHIL HOON GEY            |
|         | <b>يَلْجَ</b>         | ول ج  | DAAKHIL HO JAAEY                |
|         | <b>الْجَمَلُ</b>      | ج م ل | OONT/CAMEL                      |
|         | <b>سَمٌ</b>           | س م م | NAAKEY                          |
|         | <b>الْحِيَاطِ</b>     | خ ي ط | SOOEE KEY                       |

|         |                            |       |  |
|---------|----------------------------|-------|--|
|         | نَجْزِي                    | ج ز ي | HUM BADLA DETEY HEIN                   |
|         | الْمُخْرِجِينَ             | ج ر م | GUNAAH GAAROON KO                      |
| AYAT 41 | مِهَادٌ                    | م ه د | BICHONA                                |
|         | فُوقُّهُمْ                 | ف و ق | IN KAA OOPER                           |
|         | غَوَاشٍ                    | غ ش و | AURHNAA BHEE                           |
| AYAT 42 | آمِنُوا                    | أ م ن | IMAAN LAAEY                            |
|         | نَكْلُفُ                   | ك ل ف | HUM TAKLEEF DETEY                      |
|         | نَسْسًا                    | ن ف س | KISEE JAAN KO                          |
|         | وُسْعَهَا                  | و س ع | IS KEE TAAQAK KEY MUTAABIQ             |
| AYAT 43 | نَرَعَنَا                  | ن ز ع | NIKAAL DAALEIN GEY HUM                 |
|         | صُدُورِهِمْ                | ص در  | DILOON IN KEY                          |
|         | غَلٌّ                      | غ ل ل | KEENA                                  |
|         | تَجْرِي                    | ج ر ي | BEHTEE HOON GEE                        |
|         | تَحْتِهِمْ                 | ت ح ت | NEECHEY IN KEY                         |
|         | الْأَنْهَارُ               | ن ه ر | NEHREIN                                |
|         | هَدَانَا / لِنَهْتَدِي     | ه د ي | KEH HIDAYAT PAATEY/HIDAYAT DETA HAMEIN |
|         | نُودُوا                    | ن د و | MANAADEE KER DEE JAAEY GEE             |
|         | أُورْتُشُمُوهَا            | ور ث  | WAARIS HUEY TUM US KEY                 |
| AYAT 44 | نَادَى                     | ن د و | PUKAAREIN GEY                          |
|         | وَجَدْنَا                  | و ج د | PAAYAA HUM NEIN                        |
|         | وَعَدْنَا                  | و ع د | JO WAADA KIYAA HUM SEY                 |
|         | فَأَذَنَ / مَوْذَنٌ        | أ ذ ن | PUS PUKAR DEY GA /PUKARNEY WALA        |
| AYAT 45 | يَصُدُونَ                  | ص د د | ROKTEY THEY                            |
|         | يَبْعُونَهَا               | ب غ ي | DHOONDTEY THEY IS MEIN                 |
|         | عِوْجًا                    | ع و ج | KAJI                                   |
| AYAT 46 | حِجَابٌ                    | ح ج ب | AIK PARDA                              |
|         | الْأَغْرَافِ / يَغْرِفُونَ | ع ر ف | AIRAAF KEY/PEHCHAAN LEIN GEY           |
|         | رِجَالٌ                    | رج ل  | KUCH AADMEE                            |
|         | بِسِيمَاهْمُ               | س و م | SOORTOON SEY UN KEE                    |
|         | يَدْخُلُوهَا               | د خ ل | DAKHIL HUEY WO IS MEIN                 |

|         |                           |       |   |
|---------|---------------------------|-------|---|
|         | يَطْمِعُونَ               | ط م ع | UMEED REKTEY HOON GEY                                     |
| AYAT 47 | صَرِفْتُ                  | ص ر ف | PALAT JAAEIN GEE  |
|         | أَبْصَارُهُمْ             | ب ص ر | NAZREIN UN KEE  |
|         | تِلْقَاءَ                 | ل ق ي | TARAF   |
|         | تَجْعَلْنَا               | ج ع ل | KER HAMEIN  |
| AYAT 48 | نَادَى                    | ن د و | PUKAAREIN GEY   |
|         | أَغْنَى                   | غ ن ي | KUCH KAAM AAEE  |
|         | جَمْعُكُمْ                | ج م ع | JAMA'AT TUMHAAREE   |
|         | تَسْتَكْبِرُونَ           | ك ب ر | TUM TAKKABBUR KERTEY                                      |
| AYAT 49 | أَقْسَطُمُنَا             | ق س م | QASAM KHAATEY THEY TUM                                    |
|         | يَسَّالُهُمْ              | ن ي ل | POHONCHAAEY GA UN KO                                      |
|         | اَذْخُلُوا                | د خ ل | DAAKHIL HO JAAO   |
|         | تَحْرُنُونَ               | ح ز ن | GHAMGHEEN HOON GEY  |
| AYAT 50 | أَفَيُضُوا                | ف ي ض | BAHAAO  |
|         | حَرَمَهُمَا               | ح ر م | HARAM KIYA UN DONOON KO                                   |
| AYAT 51 | اَتَحَدُوا                | أ خ ذ | BANA RAKHA THA  |
|         | لَهُوَا                   | ل ه و | TAMASHA   |
|         | لَعِبَا                   | ل ع ب | KHAIL   |
|         | غَرَّتْهُمْ               | غ ر ر | DHOKA MEIN DAAL REKHA THA UN KO                           |
|         | نَسْنَاهُمْ               | ن س ي | BHULA DEIN GEY HUM UN KO                                  |
|         | يَجْحَدُونَ               | ج ح د | WO INKAAR KERTEY  |
| AYAT 52 | فَصَلَّنَا                | ف ص ل | PUS MUFASSAL BAYYAN KIYA HUM NEIN                         |
| AYAT 53 | يَنْظُرُونَ               | ن ظ ر | WO MUNTAZIR HEIN  |
|         | تَأْوِيلَةً               | أ و ل | IS KEE HAQEEQAT KEY ZAHIR HONEY KEY                       |
|         | نَسُوهُ                   | ن س ي | BHOOLEY HUEY THEY US KO                                   |
|         | شَفَعَاءٌ // فَيَشْفَعُوا | ش ف ع | KOI SIFAARISH KERNEY WALEY<br>HEIN/PUS WO SIFARISH KAREIN |
|         | نُرُّدُ                   | ر د د | LOTAAEY JAAEIN HUM  |
|         | فَنَعْمَلُ                | ع م ل | PUS AMAL KAREIN   |
|         | يَفْتَرُونَ               | ف ر ي | IFTARA KIYA KERTEY  |
| AYA 54  | سِتَّةٌ                   | س ت ت | SIX   |

|         |                |       |                                 |
|---------|----------------|-------|---------------------------------|
|         | اسْتَوَى       | س و ي | QARAR PAKRA                     |
|         | يُغْشِي        | غ ش و | DHAANK DETA HEY                 |
|         | حَشِيشًا       | ح ث ث | DORTA HUA                       |
|         | الشَّمْسُ      | ش م س | SOORAJ                          |
|         | الْقَمَرُ      | ق م ر | CHAAND                          |
|         | النُّجُومُ     | ن ج م | SITAAREY                        |
|         | مُسْخَرَاتٍ    | س خ ر | KAAM MEIN LAGEY HUEY            |
|         | بَشَارَكَ      | ب ر ك | BARI BARKAT WALA HEY            |
|         | الْعَالَمِينَ  | ع ل م | JAHAAON KA                      |
| AYAT 55 | ادْعُوا        | د ع و | PUKAARO                         |
|         | تَصْرُعًا      | ض ر ع | A'AJZEE SEY                     |
|         | خُفْيَةً       | خ ف ي | CHUPKEY CHUPKEY                 |
|         | يُحِبُّ        | ح ب ب | DOST REKHTA                     |
|         | الْمُعْتَدِينَ | ع د و | HUD SEY NIKAL JAANEY WAALOON KO |
| AYAT 56 | تُفْسِدُوا     | ف س د | FASAAD KURO                     |
|         | إِصْلَاحِهَا   | ص ل ح | ISKEE ISLAAH KEY                |
|         | طَمَعًا        | ط م ع | UMEED REKTEY HUEY               |
|         | الْمُحْسِنِينَ | ح س ن | NAIKI KERNEY WAALEY             |
| AYAT 57 | يُرْسَلُ       | ر س ل | BHEJTA HEY                      |
|         | الرَّبَاحَ     | ر و ح | HAWAAON KO                      |
|         | بُشْرًا        | ب ش ر | KHUSH KHABREE BANA KER          |
|         | أَقْلَتْ       | ق ل ل | UTHA LAATEE HEY                 |
|         | سَحَابًا       | س ح ب | BAADLOON KO                     |
|         | نِقَالًا       | ث ق ل | BHAARI                          |
|         | سُقْنَاهُ      | س و ق | HUM HAANK DETEY HEIN US KO      |
|         | لِلَّدِ        | ب ل د | SHEHAR/ZAMEEN                   |
|         | الشَّمَرَاتِ   | ث م ر | PHUL                            |
|         | تَذَكَّرُونَ   | ذ ك ر | NASEEHAT PAKRO                  |
| AYAT 58 | الظَّيْبُ      | ط ي ب | PAAKEEZA                        |
|         | نَبَائِهُ      | ن ب ت | KHAIKI US KEE                   |
|         | يَادُنِ        | أ ذ ن | HUKUM SEY                       |


|         |                       |       |   |
|---------|-----------------------|-------|---|
|         | <b>خَبِيثٌ</b>        | خ ب ث | <b>KHABEETH/KHARAB HEY</b>                    |
|         | <b>نَكِيدًا</b>       | ن ک د | <b>NAAQIS/occurs only once in the Quran</b>   |
|         | <b>نُصَرَفُ</b>       | ص ر ف | <b>HUM PHAIR PHAIR KER BAYYAN KERTEY HEIN</b> |
| AYAT 59 | <b>أَعْبَدُوا</b>     | ع ب د | <b>IBAADAT KERO</b>                           |
|         | <b>غَيْرَهُ</b>       | غ ي ر | <b>IS KEY SIWA</b>                            |
|         | <b>أَخَافُ</b>        | خ و ف | <b>MEIN KHOF REKHTA HOOON</b>                 |
| AYAT 60 | <b>الْمَلَأُ</b>      | م ل أ | <b>SARDAAR</b>                                |
|         | <b>لَئَرَاكَ</b>      | ر أ ي | <b>DEKHTEY HEIN TUJHEY</b>                    |
|         | <b>ضَلَالٍ</b>        | ض ل ل | <b>GUMRAAHI</b>                               |
| AYAT 62 | <b>الْلَّغْكُمْ</b>   | ب ل غ | <b>POHONCHATA HOON TUMHEIN</b>                |
|         | <b>وَأَنْصَحُ</b>     | ن ص ح | <b>NASEEHAT KERTA HOON</b>                    |
| AYAT 63 | <b>أَوْعَجْبْتُمْ</b> | ع ج ب | <b>KIYA TUMHEIN TA'AJUB HEY</b>               |
|         | <b>رَجُلٌ</b>         | رج ل  | <b>AIK SHAKS KEY</b>                          |
|         | <b>لَيْلَذِرَكُمْ</b> | ن ذ ر | <b>TAKEY WO TUMHEIN DARRAEY</b>               |
| AYAT 64 | <b>فَكَبِيْرَةٌ</b>   | ك ذ ب | <b>PUS JHUTLAYA UNHOON NEIN IS KO</b>         |
|         | <b>عَمِينٌ</b>        | ع م ي | <b>UNDHEY(AQAL KEY)</b>                       |
| AYA 65  | <b>أَخَاهُمْ</b>      | أ خ و | <b>BHAI UN KEY</b>                            |
| AYAT 66 | <b>الْمَلَأُ</b>      | م ل أ | <b>SARDAAROON NEIN</b>                        |
|         | <b>لَئَرَاكَ</b>      | ر أ ي | <b>DEKHTEY HEIN TUJHEY</b>                    |
|         | <b>سَفَاهَةٌ</b>      | س ف ه | <b>BEWAQOOFEE</b>                             |
|         | <b>لَظَنَّكَ</b>      | ظ ن ن | <b>GUMAAN KERTEY HEIN TUJH KO</b>             |
|         | <b>الْكَاذِبِينَ</b>  | ك ذ ب | <b>JHOOTON MEIN</b>                           |
| AYAT 68 | <b>نَاصِحٌ</b>        | ن ص ح | <b>KHAIR KHUWAH</b>                           |
|         | <b>أَمِينٌ</b>        | أ م ن | <b>AMANAT DAAR HOON</b>                       |
| AYAT 69 | <b>خَلْفَاءَ</b>      | خ ل ف | <b>SARDAAR</b>                                |
|         | <b>زَادَكُمْ</b>      | ز ي د | <b>ZIYADA DIYA TUM KO</b>                     |
|         | <b>بَسْطَةٌ</b>       | ب س ط | <b>PHAILAAO/WUSSAT</b>                        |
|         | <b>تَفْلِحُونَ</b>    | ف ل ح | <b>TUM FALAAH PAAO</b>                        |
| AYAT 70 | <b>أَجْنَتْنَا</b>    | ج ي أ | <b>KIYA TOON AYA HAMAREY PAAS</b>             |
|         | <b>فَاتَّنَا</b>      | أ ت ي | <b>PUS LEY AA HUM PER</b>                     |
|         | <b>تَعْدَنَا</b>      | و ع د | <b>DHAMKI DETA HEY TOON HAMEIN</b>            |
| AYAT 71 | <b>وَقَعَ</b>         | و ق ع | <b>WAQAY/MUQARAR HO CHUKA</b>                 |
|         | <b>رِجْسٌ</b>         | رج س  | <b>AZaab</b>                                  |

|         |  |       |  |
|---------|--|-------|--|
|         | <b>غَضْبٌ</b>                            | غ ض ب | <b>GHAZAB</b>  |
|         | <b>أَتَجَادُلُونَى</b>                   | ج د ل | <b>KIYA TUM JHAGRA KERTEY HO MUJH SEY</b>                            |
|         | <b>أَسْمَاءٍ // سَمَيَّتُهُوَهَا</b>     | س م و | <b>REKH LIYE HEIN WO</b><br><b>PUS INTIZAAR KURO/INTIZAAR KERNEY</b> |
|         | <b>فَانْتَظِرُوا // الْمُنْتَظَرِينَ</b> | ن ظ ر | <b>WAALOON MEIN HOON</b>   |
| AYAT 72 | <b>بِرَحْمَةٍ</b>                        | ر ح م | <b>SATH REHMAT KEY</b>   |
|         | <b>قَطْعَنَا</b>                         | ق ط ع | <b>KAAT DEE HUM NEIN</b>   |
|         | <b>ذَابَرَ</b>                           | د ب ر | <b>JUR</b>   |
| AYA 73  | <b>بَيْنَةٌ</b>                          | ب ي ن | <b>DALEEL/MUAJZA</b>   |
|         | <b>نَاقَةٌ</b>                           | ن و ق | <b>OONTNEE</b>   |
|         | <b>فَفَرُوهَا</b>                        | و ذ ر | <b>PUS CHOR DO US KO</b>   |
|         | <b>تَأْكِلُ</b>                          | أ ك ل | <b>KEY CHARTEE PHIREY</b>  |
|         | <b>تَمَسُّوهَا</b>                       | م س س | <b>CHUO IS KO</b>  |
|         | <b>بَسْوَعٌ</b>                          | س و أ | <b>BUREE NIYYAT SEY</b>  |
|         | <b>فِيَاخْذِكُمْ</b>                     | أ خ ذ | <b>PUS PAKREY GA TUMHEIN</b>   |
|         | <b>أَلِيمٌ</b>                           | أ ل م | <b>DURDNAAK</b>  |
| AYAT 74 | <b>وَاذْكُرُوا</b>                       | ذ ك ر | <b>AUR YAAD KURO</b>   |
|         | <b>جَعَلْكُمْ</b>                        | ج ع ل | <b>BANAYA TUMHEIN</b>  |
|         | <b>خَلْفَاءَ</b>                         | خ ل ف | <b>BAA IKHTIYAAR</b>   |
|         | <b>بَوَّاْكُمْ</b>                       | ب و أ | <b>THIKANA DIYA TUMHEIN</b>  |
|         | <b>تَتَخِذُونَ</b>                       | أ خ ذ | <b>KEY BANATEY HO</b>  |
|         | <b>سُهُولًا</b>                          | س ه ل | <b>NARM ZAMEEN IS KEE/occurs only once in the Quran,</b>             |
|         | <b>قَصُورًا</b>                          | ق ص ر | <b>MEHAL</b>   |
|         | <b>تَنْحِيَّوْنَ</b>                     | ن ح ت | <b>TARASHTHEY HO</b>   |
|         | <b>الْجَبَالُ</b>                        | ج ب ل | <b>PAHAROON KO</b>   |
|         | <b>بَيْوَاتًا</b>                        | ب ي ت | <b>GHAR BANANEY KEY LIYE</b>   |
|         | <b>تَعْثُوا</b>                          | ع ث و | <b>BIGAAR PHELAOO</b>  |
| AYA 75  | <b>اسْتَضْعِفُوا</b>                     | ض ع ف | <b>GHAREEB/ZAEFF THEY</b>  |
|         | <b>أَتَعْلَمُونَ</b>                     | ع ل م | <b>KIYA TUMHEIN YAQEEN HEY</b>                                       |
|         | <b>مُرْسَلٌ</b>                          | ر س ل | <b>BHEJA HUA HEY</b>   |
| AYAT 76 | <b>آمَنْتُمْ</b>                         | أ م ن | <b>IMAN LAAEY TUM</b>  |
| AYAT 77 | <b>فَعَقَرُوا</b>                        | ع ق ر | <b>PUS KAAT DALA UNHOON NEIN</b>                                     |
|         | <b>عَتَّوْا</b>                          | ع ت و | <b>SURKASHEE KI</b>  |
|         | <b>أَنْتَنَا</b>                         | أ ت ي | <b>LEY AA HUM PER</b>  |
| AYA 78  | <b>الرَّجْفَةُ</b>                       | رج ف  | <b>BHONCHAL NEIN</b>   |

|         |                      |       |                                 |
|---------|----------------------|-------|---------------------------------|
|         | فَاصْبُحُوا          | ص ب ح | PUS SUBHA KO REH GAEY           |
|         | دَارِهْمٌ            | د و ر | GHAROON APNEY                   |
|         | جَائِيْنَ            | ج ث م | ONDHEY PAREY HUEY               |
| AYAT 79 | قَسْوَلٌ             | ول ي  | PUS MOON PHERA                  |
|         | أَبْلَغْتُكُمْ       | ب ل غ | MEIN NEIN POHONCHAYA TUMHEIN    |
|         | تُجْبُونَ            | ح ب ب | TUM DOST REKTEY                 |
| AYAT 80 | أَتَأْتُونَ          | أ ت ي | KIYA TUM KERTEY HO              |
|         | الْفَاجِشَةَ         | ف ح ش | ESEE BEHAYYAAE                  |
|         | سَبَقْتُكُمْ         | س ب ق | KIYA PEHLEY TUM SEY             |
| AYA 81  | شَهْوَةً             | ش ه و | SHEHWAT KEY LIYE                |
|         | مُسْرِفُونَ          | س ر ف | HUD SEY NIKAL JANEY WALEY HO    |
| AYA 82  | أَخْرِجُوهُمْ        | خ ر ج | NIKAL DO IN KO                  |
|         | فَرِتْتُكُمْ         | ق ر ي | BASTI APNEE                     |
|         | أَنَاسٌ              | أ ن س | LOG                             |
|         | يَتَطَهَّرُونَ       | ط ه ر | PAAK BANNA CHAHTHEY HEIN        |
| AYAT 83 | فَانْجِيْنَاهُ       | ن ج و | PUS BACHA LIYA HUM NEIN US KO   |
|         | أَهْلَهُ             | أ ه ل | IS KEY GHAR WAALOON KO          |
|         | امْرَأَتُهُ          | م ر أ | AURAT US KEE/BEEWEE             |
|         | الْغَابِرِينَ        | غ ب ر | PEECHEY REH JAANEY WAALOON MEIN |
| AYAT 84 | أَمْطَرَنَا//مَطَرًا | م ط ر | BARSAYA HUM NEIN/AIK MEENA      |
|         | عَاقِبَةٌ            | ع ق ب | ANJAAM                          |
|         | الْمُحْرِمِينَ       | ج ر م | MUJRIMOON KA                    |
| AYA 85  | فَأَوْفُوا           | و ف ي | PUS POORA KURO                  |
|         | الْكَيْلَ            | ك ي ل | MAAP                            |
|         | تَبْخَسُوا           | ب خ س | KUM KURO/GHATAAO                |
|         | أَشْيَاءُهُمْ        | ش ي أ | CHEEZEIN UN KEE                 |
|         | إِصْلَاحِهَا         | ص ل ح | ISKEE ISLAAH KEY                |
| AYAT 86 | تَقْعِدُوا           | ق ع د | BETHA KURO                      |
|         | صِرَاطٍ              | ص ر ط | RAASTEY PER                     |
|         | تُوعَدُونَ           | و ع د | KEY DARAAO                      |
|         | تَصُدُّونَ           | ص د د | ROKO                            |

|         |               |        |  |
|---------|---------------|--------|--|
|         | آمنَ          | أْمِنَ | <b>IMAN LAAEY</b>                      |
|         | تَبْغُونَهَا  | بَغْيَ | <b>DHOONDO IS MEIN</b>                 |
|         | فَكَشَّرُكُمْ | كَثْرَ | <b>PUS IS NEIN ZIYADA KIYA TUMHEIN</b> |
|         | انْظُرُوا     | نَظَرٌ | <b>DEKHO</b>                           |
| AYAT 87 | طَائِفَةً     | طَوْفٌ | <b>AIK JAMAT</b>                       |
|         | أُرْسِلْتُ    | رسَلٌ  | <b>BHEJA GAYA MUJHEY</b>               |
|         | فَاصْبِرُوا   | صَبَرٌ | <b>PUS SABAR KURO</b>                  |
|         | يَحْكُمُ      | حَكْمٌ | <b>FAISLA KER DEY</b>                  |
|         | بَيْتَنَا     | بَيْنَ | <b>HAMAREY DARMIYAAN</b>               |
|         | الْحَاكِمِينَ | حَكَمٌ | <b>FAISLA KERNEY WALA HEY</b>          |





[REDACTED]











